

F - ATTENTION!  
 GB - WARNING!  
 D - ACHTUNG!  
 NL - WAARSCHUWING!  
 E - ADVERTENCIA!  
 P - ATENÇÃO!  
 I - AVVERTENZA!  
 DK - ADVARSEL!  
 S - VARNING!  
 FIN - VAROITUS!  
 N - ADVARSEL!  
 H - FIGYELMEZTETÉS!  
 CZ - UPOZORNĚNÍ!  
 SK - UPOZORNENIE!



PL - OSTRZEŻENIE!  
 BG - ВНИМАНИЕ!  
 RO - AVERTISMENT!  
 GR - ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!  
 SI - OPOZORILO!  
 HRV - UPOZORENJE!  
 TR - UYARI!  
 UA - УВАГА!  
 EST - HOIATUS!  
 LT - DĖMESIO!  
 LV - UZMANĪBU!  
 !-تنبیه-AR

## +10

mois  
months  
Monate  
maanden  
meses  
meses  
meses  
meses  
månader  
månader

kuukauden  
måneder  
hónapban  
mésicü  
mesiacov  
miesięcy  
meceuja  
luni  
μηνών














mesecev  
mjeseci  
ayda  
місяців  
kuud  
mån  
mēneši  
لشهر








\* F - Outils non fournis  
 GB - Tools not provided.  
 D - Werkzeug nicht inbegriffen  
 NL - Gereedschap niet inbegrepen  
 E - Herramientas no incluidas  
 P - Ferramentas não fornecidas.  
 I - Utensili non forniti  
 DK - Værktøj medfølger ikke.  
 S - Verktyg ingår inte.  
 FIN - Ei sisälly työkaluja  
 N - Verktøy følger ikke med  
 H - A szerszámok nem tartozékaik a terméknek.  
 CZ - Nářadí není součástí dodávky  
 SK - Nariadenie nie je súčasťou dodávky  
 PL - Narzędzia niedostarczone w zestawie.  
 BG - Инструменти не са предоставени.

RO - Scule neincluse  
 GR - Τα εργαλεία δεν περιλαμβάνονται  
 SI - Orodje ni priloženo.  
 HRV - Alati se ne isporučuju  
 TR - Ürünle dahil değildir  
 UA - Інструменти не входять у комплект  
 EST - Tööriistu ei ole kaasas.  
 LT - Įrankių komplekte nėra  
 LV - Rīki komplektā nav ietverti.

•AR الأدوات غير مُرفقة مع المنتج.

|           |   |    |          |   |    |          |   |    |
|-----------|---|----|----------|---|----|----------|---|----|
| <b>AA</b> |    | x2 | <b>D</b> |     | x1 | <b>H</b> |                        | x4 |
|           | I150191   |    |          | I24048  |    |          | I24046  |    |
| <b>A</b>  |  | x1 | <b>E</b> |    | x1 | <b>J</b> |                      | x1 |
|           | I24044+I24045   |    |          | I24049  |    |          | ABA1386   |    |
| <b>C</b>  |  | x1 | <b>F</b> |    | x1 | <b>K</b> |  $\varnothing$ 4x20  | x2 |
|           | I24047  |    |          | OUT0901   |    |          | AAK0407   |    |
| <b>G</b>  |  | x1 | <b>L</b> |  | x4 | <b>M</b> |  $\varnothing$ 6x242 | x1 |
|           |   |    |          | OUT0905   |    |          | AAK1998   |    |
|           |   |    | <b>N</b> |  | x1 |          | $\varnothing$ 6x268   | x1 |
|           |   |    |          |   |    |          | AAK1997   |    |

**⚠ WARNING:**  
 Never allow a child to play without adult supervision.  
**⚠ WARNING:**  
 Toy must be assembled by an adult, as it contains hazardous points or edges. A sharp tool shall be used





djetetu da se igra bez nadzora odrasle osobe. U primjeru uvažavanje garancije morate obavezno priložiti račun prodavača. Plastične ili metalne spojeve između dijelova treba ukloniti odrasla osoba reznim alatom kako bi se izbjegli oštri rubovi. Kod upotrebe pripazite da dijete ima zatvorene cijele. UPOZORENJE! Dijete se u proizvodu brže kreće i doseže više stave. UPOZORENJE! Ne upotrebljavajte na javnim cestama. Koristiti za jedno dijete na obje vodoravne ravnine. Izbjegavajte opasna mjesta kao što su staze, ceste, bazeni i druga područja s vozilom.... Na početku stave igre provjerite stanje proizvoda (montažu, zaštitu, plastične i/ili električne dijelove). Redovito provjeravajte sigurnosne i osnovne elemente, te ih po potrebi ponovno zategnite ili pričvrstite. Ukoliko primjetite grešku, proizvod ne upotrebljavajte sve dok ga ne popravite. Nepoštivanje uputa može uzrokovati pad, prevrtanje ili druge štetne posljedice. Ova igračka zahtjeva pažljivo rukovanje, koristite je s puno opreza kako biste izbjegli ozljede, padove ili udarce koji bi mogli dovesti do vaših ili tuđih osobnih povreda. Nemojte dopustiti da djeca sama ulaze u proizvod. **TR** -Lütfen olası yazışmalar için bu uyarıları saklayın. Dikkat! Ambalajla ilgili herhangi bir tehlikeyi önlemek için (etiketler, plastik film, şişirme ağız, montaj araçları vb.), ürünün parçası olmayan tüm parçaları çıkarın. Yetişkinler tarafından takılmalıdır. DİKKAT! Bir çocuğun asla yetişkin gözetimi olmadan oyun oynamasına izin vermeyin. Şikayetinizle birlikte satın alma kontinuarını (makbuz) sunmanız gerekir. Keskin kenarlarından kaçınmak için, parçaları bir yetişkin tarafından kesici bir aletle çıkarılmaları gerekmektedir. Ayakkabıları giyilmiş şekilde kullanın. **UYARI!** Çocuğu ürüne yerleştirildikten sonra çocuk çok daha fazla esyaya ulaşabileceğ ve eskisinden çok daha hızlı hareket edecektir. **UYARI!** Kamuya açık alanlarda kullanmayın. Yatay düzlemde tek seferde sadece bir çocuk için kullanılmaktadır. Araçlar, yüzme havuzlarını, merdivenleri, tepelerini, sokakların veya yükseltilerin yakınlarında kullanılmamalıdır. Her oyundan önce ürünün durumunu (donanımı, korumaları, plastik kısımları ve/veya elektrikli parçaları) düzenli olarak kontrol edin. Güvenlik elemanları ve ana parçaları sıkıştırın veya gerekirse yeniden sıkıştırın. Eğer bir kusur saptırsanız, tamir edilinceye kadar ürünü kullanmayın. Talimatlara uyulmaması düşmeye, takılmaya veya çeşitli bozukluklara neden olabilir. Bu oyuncak belli bir beceri seviyesi gerektirir, kullanıcının veya üçüncü şahısların hasar görebileceği kazalardan, düşmelerden ve çarpmalardan kaçınmak için dikkatli kullanılması gerekmektedir. Çocukların ürün üzerinde tek başına oturmalarına izin vermeyin. **UA** -Зберігайте цю інструкцію на випадок можливого використання у майбутньому, увага! Щоб уникнути небезпек, пов'язаних з упаковкою (кріплення, поліетиленова плівка, наконечник для наддування, інструменти для збирання тощо), видаліть усі елементи, які не є частиною виробу. Іграшка повинна збиратися тільки дорослими. **УВАГА!** Ніколи не залишайте дитину, яка грається, без нагляду дорослих. Будь-яку скругу повинен супроводжувати доказ придбання (квитанція). Деталі повинні бути обробленими дорослими за допомогою гострого інструменту для уникнення ріжучих країв. Використовуйте з закритим взуттям. Увага! Одного разу, дитя може розібрати виріб і стати рухатися набагато швидше, ніж до того. **УВАГА!** Не користуватися на проїжджій частині доріг та вулиць. Для одночасного використання тільки однією дитиною, на горизонтальній поверхні. Машинами не дозволяється користуватися поблизу басейнів, сходів, пагорбів, доріг чи на ухилі. На початку кожної гри перевіряйте стан виробу (збірка, захист, пластикові деталі і електродеталі) Затягніть або зафіксуйте елементи і основні частини, якщо це необхідно. Якщо виявлена несправність, не використовуйте пристрій, поки воно не буде відремонтовано. Недотримання інструкції може спровокувати падіння, перекидання або пошкодження. Ця іграшка потребує спритності та обережності в користуванні, щоб уникнути нещасних випадків, падінь та заткнень, в яких можуть бути травмовані і користувач, і інші особи. Дитина не повинна сидіти у виробі самостійно. **EST** -Olluline teave, mis tuleks alles hoida. Hoiatusi! Pakendiga (sildid, kile, täitmistõsik, kokkupaneku tööriistad jne) seotud ohtude ennetamiseks eemaldage kõik osad, mis ei ole toote osad. Mänguasi tuleks kokku panna vastutava täiskasvanu poolt. HOIATUS! Ärge kunagi lubage lastel mängida ilma täiskasvanu järelevalveta. Kaebuste tuleb lisada otse toendav dokument (kvitтинг). Teravate äärte vältimiseks peab täiskasvanu lõikerista abil eemaldama osadevahelised plastikusid või metallist ühendused. Kasutada ainult kinniste jalajaluodega. HOIATUS! Toote sees olles ulatub laps palju rohkemate esemeteni ja liigub palju kiiremini kui varem. HOIATUS! Mitte kasutada avalikel teedel. Kasutamiseks ainult ühele lapsele korraga, horisontaalsel pinnal. 0000Vältida tuleks ohtlikke kohti, nt. kaldeid, maanteesid, alasid treppide, kraavide, basseineide ja teiste veekogude läheduses. Kontrollige toote seisukorda (koost, kaitsed, plastikosad ja/või elektrilised osad) regulaarselt enne iga mängukorda. Vajadusel pingutage või keerake turvaelemendid ja pühosad kinni. Defekti avastamiseks ärge kasutage toodet kuni see on parandatud. Juhiste mittejärgimine võib põhjustada kukkumist, ümbernemist või muud lagunemist. See mänguasi eeldab käteosavust, kasutajat või teisi lähedalviibivaid inimesi vigastada võivate õnnetuste, kukkumiste või kokkupõrgete vältimiseks tuleb seda kasutada ettevaatlikult. Ärge lubage lastel ise toote sisse minna. **LT** -Svarbi informacija, kurią būtina išsaugoti. Išpėjimas! Siekdami išvengti bet kokio pakuočių (etiketų, plastikinės plėvelės, pūtimo antgalio, surinkimo įrankių ir pan.) keliamo pavojaus, pašalinkite visus nereikalingus elementus. Žaislą turi sumontuoti atsakingas suaugęs asmuo. **DEMESIO!** Niekada neleiskite vaikui žaisti be suaugusiojo priežiūros. Reiškiant pretenziją būtina pateikti pirkimo įrodymą (kasos kvitą). Suaugusysis privalo, naudodamasis pjūvimo įrankiu, iškarpyti dalių jungtis, kad neliktų aštrių kraštų. Naudoti uždarius batais. **ISPEJIMAS:** Kai vaikas yra produkte, jis gali pasiekti daugiau objektų ir gali judėti greičiau nei anksčiau. **DEMESIO!** Nenaudoti viešajame kelyje. Vienu metu gali naudoti tik vienas vaikas, ant horizontalaus paviršiaus. Saugotis pavojingų vietų, tokių kaip status keliai, gatvės, šalia laiptų, griovių, baseinų ir kitų vandens telkinių. Prieš kiekvieną žaidimo sesiją reguliariai tikrinkite produkto būklę (konstrukciją, apsauginius elementus, plastikines dalis ir (arba) elektrines dalis). Jei reikia, priveržkite arba iš naujo priveržkite apsauginius elementus ir pagrindines dalis. Aptikus defektą produkto nenaudoti, kol jis nebus pataisytas. Nesilaikant nurodymų galima sukelti kritimą, nubėgimą ar įvairius apgadėjimus. Šio žaislo naudojimas reikalauja mikslo; naudoti atstargiai, kad būtų išvengta avarijų, kritimų ir susidūrimų, galinčių sužeisti naudotoją arba greta esančius asmenis. Neleisti vaikui savarankiškai lipoti į produkta. **LV** -Svarīga informācija saglabāšanai Uzmanību! Lai neradītu apdraudējumu saistībā ar iepakojumu (etiketes, plastmasas plēves, gaisa piepūšanas sprausas, montāžas instrumentu u.c.), noņemiet visas liekās detaļas. Rotālietu jāmontē atbildīgajam pieaugušajam. **UZMANĪBU!** Nelaidīti izmantot uz satiksmes regulāri pārbaudīt izstrādājuma stāvokli (savienojuma vietās aizsargelementus, plastmasas daļas un/vai elektriskās sastāvdaļas). Nepieciešamības gadījumā pievilkiet vai no jauna piestiprināt drošības elementus un galvenās daļas. Ja tiek konstatēts bojājums, izstrādājumu nelietot, pirms nav veikts remonts. Norādījumu neievērošana var izraisīt kritienu, savsēršanos vai dažādus bojājumus. Lai rotāļos ar šo izstrādājumu, nepieciešama zināma veiklība. Izmantot to uzmanīgi, lai izvairītos no negadījumiem, kritieniem, sadursmēm, kas varētu ievainot lietotāju vai kādu trešo personu. Nelaidīti bērnam vienam pašam iekārtoties uz izstrādājuma.

**التعليمات الهامة المطلوب الاحتفاظ بها.**

تحذيراً: قمر بإزالة المخاطر المرتبطة بالتغليف (المرفقات ، الغلاف البلاستيكي ، فوهة النفخ ، أدوات جميع المنتج ، إلخ.) قمر بإزالة جميع العناصر التي لا تشكل جزءاً من اللعبة يجب أن يقوم بتجميع هذه اللعبة شخص بالغ مسئول تحذيراً! لا تسمح فقط للطفل باللعب بدون إشراف شخص بالغ. لا تستخدم المنتج قبل أن يكون مركب بشكل صحيح يجب مراقبة الأطفال الذين يقل عمرهم عن أربع سنوات من قبل شخص راشد كل شكوى يجب أن يرفق بها دليل الشراء (إيصال الخزانة).

يجب فصل القطع من قبل شخص بالغ بواسطة أداة خاصة لتجنب الحوادث.

يجب ارتداء أحذية مغلقة عند الإستعمال.

تحذير! لا يتم اللعب مع الآخرين، يصبح في متناولهم أجزاء إضافية ويتقل بسرعة أكثر من قبل.

لا يستعمل في الظروف الممطرة.

يجب أن يستخدم من طرف طفل واحد في الوقت نفسه على سطح أفقي.

تقادي الأماكن الخطرة مثل الطرق المزدحمة والشوارع وبالقرع والسلام والحفر وحمامات السباحة وأي مساحة مائية أخرى.

العمليات الفنية يجب أن يقوم بها شخص بالغ.

يجب أن يتأكد الآباء من وضع عنصر أو عناصر الحيس.

استعمل دائما مسند القدم مع القوس.

تنبيه! يجب رفع اللعبة بواسطة أظفار الحماية.

حذر! أن يصبح الطفل قادراً على التحرك بمفرده على الحامل، يرجى إزالة مقبض الوالدين (كلا الأتيوبين) والطوق ومسند القدمين والأشرطة.

تحقق من تثبيت العضا بشكل جيد قبل الإستعمال.

في بداية كل جلسة للعب، افحص بانتظام حالة المنتج (التجميع، و/أو الحماية، و/أو الأجزاء البلاستيكية و/أو الأجزاء الكهربائية)


يجب إعادة شد أو تثبيت عناصر السلامة والأجزاء الأساسية عند الضرور

إذا لاحظت أي عيب لا تستعمل المنتج إلا بعد إصلاح العيب.

لا عدم الالتزام بالإرشادات قد يكون سبباً في السقوط أو الانقلاب أو الإضرار بالمنتج.

هذه اللعبة تتطلب مهارة في الترتيب، استخدامها بحرص لتجنب الإصابات أو السقوط أو الصدمات التي قد تسفر عن جروح للسقوط أو الحرف الخر.

لا تدع الطفل يجلس وحده داخل المنتج



VERIFICA LE DISPOSIZIONI DEL TUO COMUNE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA



Adresses sur quefairedemesdechets.fr

**Auto** **SMOBY TOYS S.A.S.**  
**Service après vente / After sales service : www.smoby.fr**  
**95 route du Haut Jura - 39170 Lavans-lès-Saint-Claude / France.**

**Assistance consommateurs à nous retourner en cas de problèmes / Consumer assistance: for any problems, return this card /**  
**Verbraucher-Info: Für weitere Auskünfte, senden Sie diese Karte bitte an / Klantenservice: voor inlichtingen, dese kaart naar ons terugsturen/**  
**Atención al consumidor: para cualquier información, enviar esta tarjeta. / Assistenza per il consumatore: per informazioni, rispedita la presente cartolina.**

**NOM / NAME :** \_\_\_\_\_  
**PRENOM / SURNAME :** \_\_\_\_\_  
**RUE / STREET :** \_\_\_\_\_  
**VILLE / TOWN :** \_\_\_\_\_  
**CODE POSTAL / POSTAL CODE :** \_\_\_\_\_  
**PAYS / COUNTRY :** \_\_\_\_\_  
**N°TEL :** \_\_\_\_\_  
**EMAIL :** \_\_\_\_\_

**Description du motif de la réclamation / Cause for complaint / Grund der Beanstandung /**  
**Omschrijving van de reden van de klacht / Detalle el motivo de su reclamación / Descizione del**  
**motivo del reclamo :**

**Manquant / Missing / Fehlende Teile / Tekort / Faltante / Mancante.**  
 **Cassé / Broken / Gebrochen / Gebroken / Rotura / Rotto.**  
 **Commentaires / Comments / Bemerkung / Opmerkingen / Comentarios / Commenti.**

**Ref.:** \_\_\_\_\_  
**Couleurs/Colors:** \_\_\_\_\_  
**N° Notice / IS Number :**  
**76A3166012618**

N°:     N°:     N°:     N°:     N°:     N°:     N°:   
Qté: .....    Qté: .....    Qté: .....    Qté: .....    Qté: .....    Qté: .....    Qté: .....

